



## سوال

(312) وہ مسلمان ہو کر نماز نہیں پڑھتا

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ایک مسلمان جو ماں باپ کی طرف سے مسلمان ہے مگر وہ نماز روزہ اور دیگر شعائر اللہ کو ادا نہیں کرتا تو کیا اس کے ساتھ مسلمانوں کا سا معاملہ کرنا جائز ہے یعنی کوئی مسلمان اس کے ساتھ مل کر کھانا کھا سکتا ہے؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

جب اس شخص کا یہ حال ہے کہ وہ نماز روزہ اور دیگر شعائر اسلام کو ادا نہیں کرتا تو علماء کے صحیح قول کے مطابق وہ ایسے کفر کا ارتکاب کر رہا ہے جس کی وجہ سے وہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس سے تین دن تک توبہ کا مطالبہ کیا جائے اگر توبہ کر لے تو الحمد للہ ورنہ اس پر وہ حد نافذ کرے گا جو شریعت نے واجب قرار دی ہے کہ مرتدین کو قتل کر دیا جائے۔ مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اس سے دوستی اور میل جول رکھیں البتہ اسے وعظ و نصیحت کرنے کے لیے میل جول رکھ سکتے ہیں شاید یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور توبہ کر لے۔

هذا ما عندي والله أعلم بالصواب

## فتاویٰ اسلامیہ

ج 4 ص 241

محدث فتویٰ